



سوال

(37) کیا آب زم زم کو کھڑے ہو کر پینا ثواب ہے، اگر ثواب ہے تو کس وجہ سے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا آب زم زم کو کھڑے ہو کر پینا ثواب ہے، اگر ثواب ہے تو کس وجہ سے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آب زم زم کھڑے ہو کر پینا بلا کر اہت جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت قیام نوش فرمایا تھا۔ (بخاری، مسلم، ترمذی) ((عن ابن عباس قال السیوطی ہذا البیان الجواز تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۱۱۱ و ہذا الان ماء زم زم نفع خالص وبرکتہ محضۃ والمقصود مند الاکثار ووصول البرکتۃ الی الاجزاء البدنیۃ بسرینۃ فلا یحکون منہا عنہ ولا مکروہا بخلاف غیرہ))

یہ چیز کہ اس کا کھڑا ہو کر پینا باعث ثواب ہے، اس کی دلیل میری نظر سے نہیں گذری۔ (محدث دہلی جلد ۸ شماره ۱۰)

توضیح:

اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زم زم کھڑے ہو کر پیا ہے اور سنت پر عمل کرنے سے سوشید کا ثواب ہے۔ ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب
الراقم علی محمد سعیدی جامعہ سعیدیہ خانیوال ۱۳۹۶ ہجری)

ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 08 ص 57



محدث فتویٰ